



## سوال

(318) اپنی بیوی کو اس شرط پر طلاق دینا کہ بکر کے ساتھ نکاح نہ کرے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

زید نے اپنی بیوی کو اس شرط پر طلاق دی کہ بکر کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ کیا عورت مذکورہ اس شرط کی پابند ہے۔؟ اگر وہ بعد عدت بکر سے نکاح کر لے تو کیا یہ نکاح ناجائز ہوگا؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

عدت گزارنے کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ کسی سے نکاح کر لے۔ طلاق میں اس کو کچھ دخل نہیں۔ اس لئے بوقت طلاق ایسی شرط لگانا حدیث بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماتحت لغو ہے۔ اگر اس نے بکر سے نکاح کر لیا ہے۔ تو یہ نکاح جائز ہے۔ اگر عورت نے اس شرط کو منظور کر لیا تھا تو وعدہ خلافی کے باعث گناہ گار ہوگی۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ شناسیہ امرتسری

جلد 2 ص 317

محدث فتویٰ